



یونان میں کام کرنا

آپ اپنا مکمل رجسٹریشن کارڈ حاصل کرنے کے بعد یونان میں قانونی طور پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا رجسٹریشن کارڈ، وہ کارڈ ہے جو آپ کو اپنی فننگر پرنٹ دینے کے بعد موصول ہوتا ہے۔

یونان میں کام کرنے کے لیے آپ کو 'ورک پرمٹ' (کام کے اجازت نامہ) کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رجسٹریشن کارڈ مؤثر طور پر آپ کا کام کا اجازت نامہ ہے۔ تاہم، آپ کو پہلے مختلف مراحل سے گزرنا ہوگا، جو کہ بشمول یونان کی شہریوں کے، ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے، جو یونان میں کام کرنا چاہتا ہو۔

اے ایف ایم نمبر – ایف ایم نمبر ایک ٹیکس نمبر ہے۔

اپنا اے ایف ایم حاصل کرنے کے لیے، آپ کو ایک مقامی ٹیکس دفتر کے 'اے ای پی' (گاہک خدمت مرکز) 'ایفوریہ' یا ڈی او وائی) جانا ہوگا۔ اتھینز کے کئی مضافتی علاقوں اور ملک کے دیگر مقامات میں دفاتر موجود ہیں۔

<http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex>

<http://livinggreece.gr/2007/05/25/doy-eforia-tax-offices-greece>

آپ کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ دفاتر صبح 7:30 بجے سے لے کر دوپہر 2:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔

اپنا رجسٹریشن کارڈ اپنے ساتھ لیں۔ آپ کو اپنی باری کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ فی الوقت، یونان اس کے لیے آن لائن خدمات فراہم نہیں کرتا۔

اے ایم کے اے نمبر -- اے ایم کے اے نمبر ایک سوشل سیکیورٹی نمبر ہے۔

آپ کو کسی آئی کے اے دفتر جانا ہوگا:

<http://livinggreece.gr/2007/07/24/ika-offices-greece> یا کسی کے اے ای پی دفتر کا دورہ کرنا ہوگا۔

<http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex>

اکثر آئی کے اے دفاتر صبح 7:30 بجے کھلتے ہیں اور دوپہر 3:00 بجے بند ہوتے ہیں۔ آپ کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اپنی باری کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنا اے ایف ایم نمبر اور رجسٹریشن نمبر اپنے ساتھ لیں۔ فی الوقت، یونان اس کے لیے آن لائن خدمات فراہم نہیں کرتا۔

آئی کے اے نمبر۔۔ آپ کو ملازمت کی پیشکش کیے جانے کے بعد، لیکن آپ کے کام کے پہلے دن سے قبل، آپ کو اپنا آئی کے اے نمبر حاصل کرنا ہوگا۔ اپنا آئی کے اے نمبر حاصل کرنے کے لیے، آپ کو کسی آئی کے اے دفتر پر جانا ہوگا:

[-/http://livinggreece.gr/2007/07/24/ika-offices-greece](http://livinggreece.gr/2007/07/24/ika-offices-greece)

آپ کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ اپنا رجسٹریشن کارڈ اور اپنی ملازمت کی پیشکش اپنے ساتھ لے جائیں۔ فی الوقت، یونان اس کے لیے آن لائن خدمات فراہم نہیں کرتا۔

بینک اکاؤنٹ نمبر۔

جب تک آپ کو ملازمت نہ ملے، اس وقت تک آپ یونان میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے۔ آپ کو ملازمت ملنے کے بعد، آپ کے پاس آپ کے آجر کی طرف سے رقم جمع کرنے کے لیے آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ رکھنا ہوگا۔ آپ کے ذریعہ ملازمت کی پیشکش قبول کیے جانے کے بعد، اپنا رجسٹریشن کارڈ اور آجر کی بینک میں رقم کی منتقلی کی معلومات اپنے منتخب بینک میں لے جائیں۔ آپ کا آجر آپ کو اس سلسلہ میں مشورہ دے سکتا ہے۔

آپ کی ملازمت کے تلاش کے تعلق سے نیک خواہشات!